

# Job

## Chapter 31

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	בְּרִית	כְּרֵתִי	לְעֵינִי	וַיְמָה	אֶתְבוּזֶן	עַל-	בְּתוֹלָה:
	عہد	باندھانے میں	سے آنکھوں اپنی	اور-کیوں	کروں غور میں	پر	کنواری
	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H3772</a>		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0995</a>		<a href="#">H1330</a>

ہوں؟ سکتا ڈال نظر پر کنواری کسی طرح کس میں پھر تو ہے۔ باندھا عہد سے آنکھوں اپنی نے میں

2	וּמָה	תְּחַק	אֵלֹהֵי	בְּמַעַל	וְנַחֲלֹת	שָׂרֵי	בְּמִזְרְמֵי:
	اور-کیا	حصہ	کا خدا	سے اوپر	اور-میراث	کی مطلق قادر	سے بلندیوں
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H7706</a>	<a href="#">H4791</a>	

ہے؟ پانا وراثت کیا سے مطلق قادر والے بسنے پر بلندیوں اُسے ہے، نصیب کیا سے طرف کی خدا والے رہنے پر آسمان کو انسان کیونکہ

3	הָלֹא-	אִיד	לְעֵינִי	יְזַכֵּר	לְפַעֲלִי	אֲנִי:
	کیا-نہیں	تباہی	لیے کے بدکار	اور-بیگانگی	لیے کے والوں کرنے	بدی
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0343</a>	<a href="#">H5767</a>	<a href="#">H5235</a>	<a href="#">H6466</a>	<a href="#">H0205</a>

ہے؟ مقرر تباہی لئے کے بدکار اور آفت لئے کے شخص ناراست کہ ہے نہیں ایسا کیا

4	הָלֹא-	הוּא	יִרְאֶה	דְּרָכֵי	וְכָל-	צַעֲרִי	יִסְפּוֹר:
	کیا-نہیں	وہ	ہے دیکھتا	راہیں میری	اور-تمام	کوقدموں میرے	ہے گنتا
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6806</a>	

ہے۔ لیتا گن قدم ہر میرا وہ ہیں، آتی نظر کو اللہ تو راہیں میری

5	אִם-	הַלֹּכְתִי	עִם-	שׂוּא	וְתַחַשׁ	עַל-	מִרְמָה	רַגְלִי:
	اگر	ہوں چلا میں	ساتھ	جھوٹ	کی اور-جلدی	پر	فریب	نے پاؤں میرے
		<a href="#">H1980</a>		<a href="#">H7723</a>			<a href="#">H4820</a>	<a href="#">H7272</a>

ہو شک بھی ذرا میں اس اگر کی۔ پُھرتی لئے کے دینے فریب کبھی نے پاؤں میرے نہ چلا، سے دھوکے کبھی میں نہ

6	יִשְׁקִלְנִי	בְּמֵאזְנִי-	צֶדֶק	וַיִּדַע	אֱלֹהֵי	תִּמְתִּי:
	تولے مجھے وہ	میں ترازو	کے انصاف	لے اور-جان	خدا	دیانتداری میری
	<a href="#">H8254</a>	<a href="#">H3976</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H8538</a>

کرے۔ معلوم حالت ہے الزام میری اللہ لے، تول میں ترازو کے انصاف مجھے اللہ تو

7	אִם	תִּטָּה	אֲשֶׁר־	מִנִּי	הֲדַרְךָ	וְאַחַר	עֵינֵי	הַלֵּךְ	לִבִּי	אֲבַכְכִּי
	اگر	بھٹکا	قدم میرا	سے	راستے	اور-پیچھے	کے آنکھوں میری	چلا	دل میرا	پر باتھوں اور-میرے
		<a href="#">H5186</a>			<a href="#">H1870</a>			<a href="#">H1980</a>		<a href="#">H3709</a>

دَبֶק מְאוֹם:  
چپکا داغ  
[H1692](#)

ہوئے دار داغ باتھ میرے یا گئیں لے پر راہ غلط کو دل میرے آنکھیں میری گئے، ہٹ سے راہ صحیح قدم میرے اگر

8	אֲזַרְעָה	וְאַחַר	יֹאכֵל	וַיִּצְאָצְאֵי	יִשְׂרָאֵל:
	ہوؤں میں	اور-دوسرا	کھائے	اولاد اور-میرے	جائے اکھاڑی سے جڑ
	<a href="#">H2232</a>	<a href="#">H0312</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H6631</a>	<a href="#">H8327</a>

جائے۔ اکھاڑا انہیں لگائیں نے میں فصلیں جو کھائے، اور کوئی پیداوار کی اُس بویا نے میں بیج جو پھر تو

9 אִם- נִפְתָּח לְבִי עַל- אִשָּׁה וְעַל- פֶּתַח יָרְעִי אֶרְבְּתִי:  
 اگر گیا بہ کیا دل میرا سے وجہ کی عورت اور- پر دروازے کے پڑوسی لگائی گھات نے میں  
 H0802 H0607 H7453 H0693

بیٹھالگائے تاک پر دروازے کے پڑوسی اپنے سے مقصد اس میں اور گیا اُکسایا پر رکھنے تعلقات ناجائز سے عورت کسی دل میرا اگر

10 תִּשְׁתָּן לְאַחֵר אִשְׁתִּי וְעַלֶּיהָ יִכְרַעוּן אַחֲרָיוּ:  
 بیسے لیے کے دوسرے بیوی میری پر اور- اس جھکیں دوسرے  
 H2912 H0312 H0802 H3766 H0312

جائے۔ جھک پر اُس اور کوئی کہ بیسے، گندم کی آدمی اور کسی بیوی میری کہ کرے اللہ پھر تو

11 כִּי- [הוא] (היא) זָמָה [והיא] (והוא) עָזָן פְּלִילִים:  
 کیونکہ وہ [הוא] وہ [היא] بدکاری اور- وہ اور- وہ گناہ لیے کے قاضیوں  
 H1931 H1992 H2154 H1931 H1931 H6414

بے۔ ہوتا لائق کے سزا جرم ایسا ہوتی، ناک شرم حرکت ایسی کیونکہ

12 כִּי אִשׁ אָג הִיא עַד- אֶבְדוֹן תִּבְוֹאֲתִי תִשְׁרַשׁ:  
 کیونکہ آگ وہ تک تباہی بے کھاتی اور- تمام کو پیداوار میری اکھاڑتی سے جڑ  
 H0784 H1931 H5704 H0011 H0398 H3605 H8393 H8327

دیتا۔ کر راکھ تک جڑوں فصل تمام میری تو ہوتا سرزد سے مجھ وہ اگر بے۔ دیتی کر بھسم کچھ سب تک پاتال آگ کی گناہ ایسے

13 אִם- אֲמַאֵס מְשַׁפֵּט עֲבָדִי וְאֲמַתִּי בְרָכָם עֲמָרִי:  
 اگر کیارد نے میں حق کا غلام اپنے کالونڈی اور- اپنی میں شکایت کی ان ساتھ میرے  
 H4941 H5650 H0519 H7378 H5978

مراحق کا اُن نے میں اور تھا جھگڑا ساتھ کے نوکرانیوں نوکر میرا اگر

14 וְזָמָה אֶעֱשֶׂה כִּי- יָקוּם אֵל וְכִי- יִפְקֹד מְהָ אֲשִׁיבֶנּוּ:  
 اور- کیا گا کروں میں جب گا اٹھے خدا اور- جب گالے جائزہ کیا گادوں جواب اسے میں  
 H4100 H0410 H7725

دوں؟ جواب کیا اُسے میں تو کرے گچھ پوچھ میری وہ جب جائے؟ ہو کھڑا میں عدالت اللہ جب کروں کیا میں تو

15 הֲלֹא- בִבְטָן עֲשִׂנוּ עֲשָׂהוּ וְיִכְנְנוּ בְרַחֵם אַחֵד:  
 کیا- نہیں میں پیٹ نے والے بنانے میرے اسے بنایا ہمیں کیا اور- تیار میں رحم ایک  
 H3808 H0990 H7358 H0259

دیا۔ تشکیل میں رحم بھی مجھے اور بھی اُنہیں نے ہی ایک بنایا۔ بھی اُنہیں نے اُس بنایا میں پیٹ کے ماں میری مجھے نے جس کیونکہ

16 אִם- אֲמַנַע מִחַפֵּץ רָגְלִים וְעֵינֵי אֶלְמִנָה אֶכְלֶה:  
 اگر روکانے میں سے خوابش کی غریبوں کو اور- آنکھوں کی بیوہ تزیایانے میں  
 H4513 H2656 H1800 H0490 H3615

نہیں! برگز دیا؟ بھنے کو آنکھوں کی بیوہ یا کیا انکار سے کرنے پوری ضروریات کی حالوں پست نے میں کیا

17 וְאֶכֶל קֶמַח רוּתִי אֶכְלֶה וְלֶחֶם אֶכֶל יִתּוֹם מִמִּנְהָ:  
 کھائی نے اور- میں لقمہ کا روٹی اپنی اکیلے اور- نہیں کھایا نے یتیم سے میں اس  
 H0398 H0905 H3808 H0398 H3490

کیا؟ نہ شریک میں اُس کو یتیم اور کھائی ہی اکیلے روٹی اپنی نے میں کیا

18 כִּי מְנַעוּרִי נִדְרָנִי כָּאֵב וּמִבְטָן אֲמִי אֲנַחֶה:  
 کیونکہ سے جوانی میری مجھے بڑھایا طرح کی باپ سے اور- پیٹ کے ماں اپنی کی رہنمائی نے میں  
 H1431 H0001 H0990 H0517 H5148

کی۔ رہنمائی کی بیوہ ہی سے پیدائش اپنی کی، پرورش کی اُس کر بن باپ کا اُس نے میں کر لے سے جوانی اپنی بلکہ نہیں، برگز

19	אם- اگر	אָרְאָה دیکھانے میں	אָזִיב کوہوئے ہوتے تباہ	מְבַלֵּי بغیر	לְבוּשׁ کے لباس	וְאִין اور-نہیں	כְּסוּת پوشاک	לְאָבִיוֹן: لیے کے محتاج
		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H1097</a>	<a href="#">H3830</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3682</a>	<a href="#">H0034</a>

نہیں تک کمبل پاس کے غریب کسی کہ ہے، رہا ہو ہلاک باعث کے کمی کی کپڑوں کوئی کہ دیکھا نے میں کبھی جب

20	אם- اگر-نہیں	לֹא نہیں	בְּרִכּוּנִי مجھے دی برکت	אֲחֻזּוֹן نے کمروں کے اس	(תְּחַלְצֵנִי) نے کمروں کے اس	וּמְנוֹ سے اور-اون	כְּבִשִׁי کے بھیڑوں میری	יְתַחַמֵּם: بوآگرم
		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H2504</a>	<a href="#">H2504</a>	<a href="#">H1488</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H2552</a>

تھے۔ دیتے دعا مجھے لوگ ایسے سکے۔ ہو گرم وہ تاکہ دی اُون کچھ کی بھیڑوں اپنی اُسے نے میں تو

21	אם- اگر	הַנִּיפּוֹתַי لہرایانے میں	עַל- پر	יְתוּם یتیم	יָדַי باتھاپنا	כִּי- جب	אָרְאָה دیکھانے میں	בְּשַׁעַר پردروازے	עֲזָרָתִי: مدد میری
		<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H5833</a>	

تھے۔ میں حق میرے بزرگ بیٹھے میں دروازے کے شہر جب نہیں بھی وقت اُس اُٹھایا، نہیں ہاتھ خلاف کے یتیموں بھی کبھی نے میں

22	כְּתָפִי کندھامیرا	מִשְׁכְּמָה سے کندھے	תְּפוּל جائے گر	אֶזְרָעִי بازو اور-میرا	מִקְנָה سے بڈی	תְּשַׁבֵּר: جائے ٹوٹ
	<a href="#">H3802</a>	<a href="#">H7929</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H0248</a>	<a href="#">H7070</a>	<a href="#">H7665</a>

جائے! پہاڑا سے جوڑ بازو میرا کہ جائے، گر کر نکل سے کندھے شانہ میرا کہ کرے اللہ تو تھا نہ ایسا اگر

23	כִּי کیونکہ	פָּחַד خوف	אֶלֵי لیے میرے	אֵיד تباہی	אֵל کی خدا	וּמִשְׁאֲחוֹ سوجہ کی عظمت کی اور-اس	לֹא نہیں	אוּכָל: سکتا کر برداشت میں
		<a href="#">H6343</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0343</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H7613</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>

سکتا رہ نہ قائم مارے کے ڈر سے اُس میں رہتا، کھاتا دہشت سے اللہ میں تو کرتا ایسا میں اگر کیونکہ تھیں، ناممکن لئے میرے حرکتیں ایسی

24	אם- اگر	שְׁמֹנִי رکھانے میں	זָהָב سونا	כֶּסֶף بھروسہ اپنا	אֶלְכָּתֶם کوسونے اور-خالص	אֲמַרְתִּי کہانے میں	מִבְּטָחִי: اعتماد میرا
		<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H3689</a>	<a href="#">H3800</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4009</a>	

نہیں! برگز ہے؟ اعتماد میرا ہی پر تجھ کہا، سے سونے خالص یا رکھا بھروسہ پورا اپنا پر سونے نے میں کیا

25	אם- اگر	אֲשַׁמַּח بواخوش میں	כִּי- کیونکہ	רַב زیادہ	חַיִּלִּי دولت میری	וְכִי- اور-کیونکہ	כְּבִיר بہت	מִצָּאָה پایا	יָדַי: نے ہاتھ میرے
		<a href="#">H8055</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H3524</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3027</a>			

نہیں! برگز ہے؟ کیا حاصل کچھ بہت نے ہاتھ میرے اور بے زیادہ دولت میری کہ تھا خوش لئے اس میں کیا

26	אם- اگر	אָרְאָה دیکھانے میں	אֶזֶר روشنی	כִּי جب	וְהָלָה تھی چمکتی	אֵינֶם اور-چاند	יָקָר میں جلال	הַלֵּל: تھا چلتا
		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H3394</a>	<a href="#">H3394</a>	<a href="#">H3368</a>	<a href="#">H1980</a>	

کردیکھ روش پُروقار کی چاند اور دمک چمک کی سورج کیا

27	וַיִּנְתְּ گیا اور-بہکا	בְּסֶתֶר کر چھپ	לְבִי دل میرا	וַתִּשָּׂק اور-چوما	יָדַי ہاتھ میرا	לְפִי: نے منہ میرے
		<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H3027</a>			

کیا؟ احترام کا اُن کبھی نے میں کیا گیا؟ لایا پر راہ غلط سے چپکے کبھی کو دل میرے

28	גַּם- بھی	הוּא وہ	עֲזוֹן گناہ	פְּלִיטוֹ لیے کے قاضیوں	כִּי- کیونکہ	כַּחֲשֵׁתִי ہوتا جھٹلایا نے میں	לְאֵל کو خدا	מִמַּעַל: اوپر
		<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H6416</a>	<a href="#">H3584</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H4605</a>

کرتا۔ انکار کا خدا والے رہنے پر بلندیوں تو کرتا ایسا میں اگر ہے۔ جرم لائق کے سزا بھی یہ کیونکہ نہیں، برگز

29	אם-	אשמה	בפיר	משנאי	יהתעוררתי	כי-	מצאו	רע:
	اگر	بواخوش میں	میں تباہی	کی دشمن اپنے	اٹھا اور میں	جب	اسے پایا	نے برائی
		<a href="#">H8055</a>	<a href="#">H6365</a>	<a href="#">H8130</a>	<a href="#">H5782</a>		<a href="#">H4672</a>	

نہیں! برگر آئی؟ مصیبت پر اُس جب ہوا باغ باغ میں کیا ہوا؟ تباہ والا کرنے نفرت سے مجھ جب ہوا خوش کبھی میں کیا

30	ولاء-	נתתי	לחטא	חכי	לשאול	באלה	נפשו:
	اور-نہیں	دیانے میں	لیے کے کرنے گناہ	کو تالو میرے	لیے کے مانگنے	سے لعنت	جان کی اس
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H2441</a>	<a href="#">H7592</a>	<a href="#">H0423</a>	<a href="#">H5315</a>

بھیجے۔ لعنت پر جان کی اُس کے کر گناہ کہ دی نہ اجازت کو منہ اپنے نے میں

31	אם-	לא	אמרנו	מתי	אחלי	מי-	יתן	מבשרו	לא	נשבע:
	اگر-نہیں	نہیں	کہا	نے لوگوں	کے خیمے میرے	کون	گادے	سے گوشت کے اس	نہیں	بوٹے سیر ہم
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4962</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7646</a>

ہوا۔ نہ سیر سے گوشت کے ایوب جو بے نہیں کوئی پڑا، کرنا تسلیم کو آدمیوں کے خیمے میرے بلکہ

32	בחזק	לא-	ילין	גר	ידיתי	לארח	אפתח:
	بابر	نہیں	گزارى رات	نے اجنبی	دروازے میرے	لیے کے مسافر	ہوں کھولتا میں
	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H1616</a>		<a href="#">H0734</a>	

تھا۔ رہتا کھلا لئے کے مسافروں دروازہ میرا بلکہ تھی پڑتی نہیں گزارنی رات میں گلی باہر کو اجنبی

33	אם-	כסיתי	כאדם	פשעי	לטמון	בחכי	עוני:
	اگر	چھپایانے میں	طرح کی آدم	خطاؤں اپنی	لیے کے چھپانے	میں سینے اپنے	بدی اپنی
		<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H0121</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H2934</a>	<a href="#">H2243</a>	<a href="#">H5771</a>

رکھا، پوشیدہ میں دل قصور اپنا کر چھپا گناہ اپنا طرح کی آدم کبھی نے میں کیا

34	כי	ואערון	המון	רבה	וביז-	משפחות	יחתי	ואדם	לא-
	کیونکہ	تھا ڈرتا میں	سے بھیڑ	بڑی	اور-ذلت	کی خاندانوں	مجھے تھی کرتی زدہ دہشت	ربا خاموش اور-میں	نہیں
		<a href="#">H6206</a>			<a href="#">H0937</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H2865</a>		<a href="#">H3808</a>

אדם  
نکلامیں  
سے دروازے  
[H3318](#)  
[H6607](#)

چپ مارے کے ڈر مجھے باعث کے جس کیا نہ کام ایسا بھی کبھی نے میں نہیں! برگر تھا؟ کھاتا دہشت سے داروں رشتے اپنے اور ڈرتا سے بجوم کہ لئے اس

تھا۔ سکتا نہیں نکل سے گھر اور پڑتا رہنا

35	מי	יתן	ולי	שמע	לי	הן-	תמי	שדי	יעני	וספר	כתב
	کون	گادے	مجھے	والا سننے	لیے میرے	دیکھو	دستخط میرا	مطلق قادر	دے جواب مجھے	اور-دستاویز	لکھے
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H8085</a>		<a href="#">H2005</a>	<a href="#">H8420</a>	<a href="#">H7706</a>			<a href="#">H3789</a>

איש  
آدمی  
نے مخالف میرے  
[H0376](#)  
[H7379](#)

الزامات وہ مجھے کر لکھ مخالف میرے کاش دے۔ جواب مجھے مطلق قادر اب ہیں، خط دست میرے پر بات میری یہاں دیکھو، سنے! میری کوئی کاش

ہیں! گائے پر مجھ نے انہوں جو بتائیں

36	אם-	לא	על-	שכמי	אשאנו	אענדנו	עטרות	לי:
	اگر-نہیں	نہیں	پر	پر کندھے اپنے	گا اٹھاؤں اسے میں	گاباندھوں اسے میں	طرح کی تاجوں	لیے اپنے
		<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7926</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H6029</a>	<a href="#">H5850</a>	

لیتا۔ باندھ پر سر اپنے طرح کی پگڑی اُسے رکھتا، پر کندھے اپنے کر اٹھا اُسے میں تو ملتا کاغذ کا الزامات اگر

37	מִסְפָּר	צְעָדִי	אֲנִי־נֹדֵם	כְּמוֹ-	נָזִיד	אֶקְרֶבְנֹו:
	شمار	كاقدموں اپنے	گابتاؤں اسے میں	جیسے	سردار	گاجاؤں پاس کے اس میں
	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H6806</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H5057</a>	<a href="#">H7126</a>

پہنچتا۔ قریب کے اُس طرح کی رئیس کر دے کتاب حساب پورا کا قدموں اپنے کو اللہ میں

38	אִם-	עָלִי	אֲדַמְתִּי	תִּזְעַק	יִזְחַד	תְּלַמִּיחַ	יִבְכּוּן:
	اگر	خلاف میرے	زمین میری	چیخے	کراور-مل	کیاریاں کی اس	روئیں
		<a href="#">H0127</a>	<a href="#">H2199</a>		<a href="#">H8525</a>	<a href="#">H1058</a>	

ہیں؟ پڑی رو کر مل سے سبب میرے ریگھاریاں کی اُس کیا ہے؟ لگایا الزام پر مجھ کر پکار لئے کے مدد نے زمین میری کیا

39	אִם-	כַּחֲזָה	אֶכְלֶתִּי	בְּלִי-	כֶּסֶף	וְנִפְשׁ	בְּעֵלְיָהּ	הַפְּחָזִי:
	اگر	طاعت کی اس	کھائی نے میں	بغیر	کے رقم	اور-جان	کی مالکوں کے اس	دی نکلوا نے میں
		<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H1097</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1167</a>	<a href="#">H5301</a>	

نہیں! برگز گیا؟ بن باعث کا بھرنے آہیں لئے کے والوں کرنے مشقت محنت پر اُس کھائی، بغیر دیئے اجر پیداوار کی اُس نے میں کیا

40	תַּחַת	וּחֲלָהּ	יֵצֵא	חֹזֶק	וְתַחַת-	שְׁעָרָה	בְּאִשָּׁה	תָּמוּד	דְּבָרֵי	אֵיזֹב:
	بجائے	کے گیہوں	نکلے	جھاڑیاں خاردار	اور-بجائے	کے جو	گھاس بدبودار	ہوئے ختم	الفاظ	کے ایوب
	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H2406</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H2336</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8184</a>	<a href="#">H0890</a>	<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0347</a>

گئیں۔ پہنچ کو اختتام باتیں کی ایوب یوں اُگے۔ [ ] دھتورا بجائے کے جو اور جھاڑیاں خاردار بجائے کے گندم تو ٹھہروں قصوروار میں اِس میں اگر